



## تنظیمِ اسلامی

31- اکتوبر 2018ء

## پریس ریلیز

لاہور (پ ر) ملعونہ آسیہ کو رہا کر کے سپریم کورٹ نے عدل و انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ بات تنظیمِ اسلامی کے امیر حافظ عاکف سعید نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ آسیہ اعترافِ جرم کے بعد منحرف ہو گئی تھی لیکن سب پر یہ واضح تھا کہ یہ انحراف محض جان بچانے کے لیے کیا گیا جو اکثر ملزمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے متفقہ فیصلے کو سپریم کورٹ نے جس بے دردی سے اور انصاف کے تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر تبدیل کیا ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ملعونہ آسیہ کو ٹرائل کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت دی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان عدالتوں نے عینی گواہان کی شہادت اور مضبوط دلائل کے بغیر یہ انتہائی سزا دے دی تھی؟ اور اب سپریم کورٹ نے کن قانونی نکات کو بنیاد بنا کر یہ سزا ختم کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عالمِ اسلام خصوصاً مسلمانانِ پاکستان کے مذہبی جذبات بڑی طرح کچلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے تو بین رسالت کا راستہ کھل جائے گا۔ انہوں نے اُمید ظاہر کی کہ نظر ثانی درخواست کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے یہ جج آسیہ کی سزا بحال کر کے اپنی آخرت کو تباہ ہونے سے بچالیں گے۔

الوسبعہ سیدہ حرز  
(ایوب بیگم مرزا)

ناظم نشر و اشاعت تنظیمِ اسلامی  
0321-4893436

جاری کردہ



# TANZEEM-E-ISLAMI

**PRESS RELEASE: October 31 2018**



**(Hafiz Aakif Saeed)**

**Lahore (PR): “The Supreme Court has murdered Justice, Fairness and Integrity by exonerating the fated blasphemer Aasia Bibi.”**

This was said by the Ameer of Tanzeem-e-Islami, **Hafiz Aakif Saeed**, in a statement. The Ameer noted that although Aasia had recanted on her earlier admission of guilt of committing blasphemy against the Holy Prophet (SAAW) everyone knew that it was just part of an effort to save her life, as many convicts do. The Ameer remarked that the heartless way in which the Supreme Court had overturned the consensus decisions of the Trial Court and the Lahore High Court was a blatant desecration of all principles and requisites of justice, full of impunity and rarely heard of. The fated Aasia Bibi had been awarded the death penalty by the Trial Court and upheld by the Lahore High Court. The question is that had both courts given and upheld this punishing sentence in the absence of eyewitness accounts and solid arguments? In addition, on which legal grounds has the Supreme Court overturned the punishment now? The Ameer said that the religious emotions and sentiments of the Islamic World and, in particular, the Muslims of Pakistan had been callously trampled by this verdict. The Ameer lamented that the path to blasphemy would now be opened, following this decision of the Supreme Court. The Ameer concluded by hoping that the judges of the Supreme Court would reinstate the death sentence of Aasia Bibi in a review petition and prevent devastation for themselves in the Hereafter.

**Issued by  
Ayub Baig Mirza  
Nazim of Press and Publications Section  
Tanzeem e Islami, Pakistan**